

ڈبازٹ اکاؤنٹس کے لیے ضروری معلومات کا گوشوارہ ¹							
تاریخ : مدت : جولائی- دسمبر 2026				الائیڈ بینک لمیٹڈ ، — برانچ، — (شہر)۔			
اہم معلومات: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو غور سے پڑھیں۔ آپ اس دستاویز کو دیگر بینکوں کے پیش کردہ اکاؤنٹس سے موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ موازنہ کرنے کے لیے دیگر بینکوں سے بنیادی معلومات طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔							
اکاؤنٹ کی نوعیت اور نمایاں خصوصیات :یہ معلومات درج بالا تاریخ تک درست ہیں۔ سروسز، فیس اور مارک اپ ریٹ میں ماہانہ بنیادوں پرتبدیلی کی جا سکتی ہے۔ آپ ڈیٹیڈ فیسوں /چارجز کی معلومات ہماری ویب سائٹ یا بینک کی شاخوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔							
روایتی						تفصیلات	
الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ	الائیڈ سیلری مینجمنٹ سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 1	الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 1		
روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	روپیہ	کرنسی(پاکستانی روپیہ، یو ایس ڈالر ، یورو،وغیرہ)	
0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کے لیے کم از کم بیلنس (اگر کوئی ہے تو رقم درج کریں)	
0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے لیے	
0	0	0	0	0	0	اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے کی فیس (اگر کوئی ہے تو رقم درج کریں)	
ہاں	ہاں	نہیں	نہیں	نہیں	نہیں	کیا اکاؤنٹ پرمنافع اداکیا جاتا ہے (ہاں /نہیں) قابل اطلاق شرح ٹیکس سے مشروط	
10.00%	10,000,000 تک سے اوپر	10,000,000	0	0	0	متوقع شرح منافع۔(%)	
	9.50%	10%					
ششماہی	ششماہی		-	-	-	منافع کی ادائیگی کی فریکوئنسی(روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)	
50	47.5	50	-	-	-	مثال دیں : (مذکورہ مدت میں آپ ہر 1000 روپے پر -----روپے کما سکتے ہیں)	
0	0	0	0	0	0	قبل از وقت/جلد رقم نکلوانے کی فیس (اگر کوئی ہے تو رقم/ریٹ درج کریں)	
سروس چارجز اہم نوٹ: اس اکاؤنٹ کے اہم سروس چارجز کی فہرست درج ذیل ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ مکمل فہرست [ذرائع کی وضاحت کریں – مثلاً "ہماری شاخوں ، ہماری ویب سائٹ www.abl.com " پر ملاحظہ کر سکتے ہیں]۔ براہِ مہربانی نوٹ فرما لیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسز کے علاوہ ہیں۔							
روایتی						طریقہ کار	سروسز
[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے اسلامی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]							
الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سیلری مینجمنٹ سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 1	الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 1		
کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش جمع کرنا روپے 500,000 پر :Rs. 600 روپے 500,000 سے زیادہ :0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے	کیش ٹرانزیکشنز	بیرون شہر

							Rs. 500 : <u>روپے 500,000</u> یا <u>روپے 500,000</u> سے زیادہ 0.12 فیصد یا زیادہ سے زیادہ روپے 3,000
	اندرون شہر کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	<u>کیش جمع کرنا</u> کوئی چارجز نہیں <u>چیک کے ذریعہ کیش نکالنا</u> روپے 250,000 یا: Rs. 20 <u>روپے 250,000 سے زیادہ</u> : کوئی چارجز نہیں <u>بائیو میٹرک کے ذریعہ کیش نکالنا</u> روپے 50
دیگر بینکوں کی اے ٹی ایم سے رقم نکوانا	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ لنک کے ذریعہ - وصول کی جانے والی فیس	35/- روپے بشمول FED یا ۱ - لنک کے ذریعہ وصول کی جانے والی فیس
بینک صارفین کے لیے CDM چارجز	0						
دیگر بینک کے صارفین کے لیے CDM چارجز	0						
ایس ایم ایس الرٹس	اے ڈی سی /ڈیجیٹل	0	0	0	0	0	0
ڈیٹ کارڈز	ویزا کلاسک	دستیاب نہیں	تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000	تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 3000
	ویزا پلائنیم		کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 6000	دستیاب نہیں	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 1650 سالانہ فیس 6000	دستیاب نہیں
	ویزا پریمئیم	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 19,500	دستیاب نہیں	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 2500 سالانہ فیس 19,500	دستیاب نہیں
	ویزا انفرینیٹ	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 5000 سالانہ فیس 3000	دستیاب نہیں	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 5000 سالانہ فیس 3000	دستیاب نہیں
	یو بی آئی اور بے پیک کلاسک	بہمیشہ کے لئے مفت	بہمیشہ کے لئے مفت	بہمیشہ کے لئے مفت	بہمیشہ کے لئے مفت	بہمیشہ کے لئے مفت	بہمیشہ کے لئے مفت
	یو بی آئی اور بے پیک گولڈ	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 1550 سالانہ فیس 3200	دستیاب نہیں	دستیاب نہیں	کارڈ تبدیلی فیس 1550 سالانہ فیس 3200	دستیاب نہیں
چیک بک	بنیادی ڈیٹ کارڈ	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200	کارڈ تبدیلی فیس 1200 سالانہ فیس 2200
	اجراء	فی چیک 33 روپے	فی چیک 33 روپے	فی چیک 33 روپے	فی چیک 33 روپے	فی چیک 33 روپے	فی چیک 33 روپے
	ادائیگی روکنا	750 روپے فی ہدایت	750 روپے فی ہدایت	750 روپے فی ہدایت	750 روپے فی ہدایت	750 روپے فی ہدایت	750 روپے فی ہدایت

روایتی		
--------	--	--

سروسز		طریقہ کار	[مذکورہ بالا پیش کردہ یا استعمال کردہ تمام قسم کے اسلامی اکاؤنٹس کے لیے نیچے دیے گئے سروس چارجز کے لیے رقوم درج کریں۔ فیس نہ ہونے کی صورت میں صفر تحریر کریں۔]					
اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ			الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 1	الائیڈ سیلری مینجمنٹ اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 1	الائیڈ سیلری مینجمنٹ آسان اکاؤنٹ Tier 2	الائیڈ سیلری مینجمنٹ سیونگ اکاؤنٹ	الائیڈ سیلری مینجمنٹ سیونگ اکاؤنٹ
فنڈ ٹرانسفر		ای ڈی سی /ڈیجیٹل چینلز	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے	ایف ای ڈی سمیت 35 روپے-6 ماہ کی ہر مدت کے لئے
RAAST اور دی کاؤنٹر انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر		ای ڈی سی /ڈیجیٹل چینلز	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت	MyABL: ABL-ABL کوئی چارجز نہیں IBFT: فیصد 0.1 یا 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو بشمول ایف ای ڈی. فی اکاؤنٹ 25,000 روپے مابانہ تک مفت
برانچ کاؤنٹر		مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت
ڈیجیٹل بینکنگ		انٹرنیٹ بینکنگ سبسکریپشن (یکبار اور سالانہ)	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت
کلیئرنگ		موبائل بینکنگ سبسکریپشن (یکبار اور سالانہ)	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت	مفت
نارمل		0	0	0	0	0	0	0
بیرون شہر		NIFT (چارجز) 550 (بشمول)	NIFT (چارجز) 550 (بشمول)	NIFT (چارجز) 550 (بشمول)	NIFT (چارجز) 550 (بشمول)	NIFT (چارجز) 550 (بشمول)	NIFT (چارجز) 700 (بشمول)	NIFT (چارجز) 700 (بشمول)
آسی دن		NIFT 550 (چارجز) (بشمول)	NIFT 550 (چارجز) (بشمول)	NIFT 550 (چارجز) (بشمول)	NIFT 550 (چارجز) (بشمول)	NIFT 550 (چارجز) (بشمول)	NIFT 700 (چارجز) (بشمول)	NIFT 700 (چارجز) (بشمول)
آپ کے لیے اہم معلومات								
غیر فعال اکاؤنٹس: اگر پچھلے ایک سال کے دوران کوئی صارف کی جانب سے آغاز شدہ لین دین (ڈیبٹ یا کریڈٹ) یا سرگرمی (مثلاً ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے لاگ ان) نہیں ہوئی تو آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال یا غیر عملی اکاؤنٹ بن جائے گا۔ مزید براں، ڈیبٹ لین دین/رقم کی واپسی کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ اکاؤنٹ فعال نہ کیا جائے۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے، آپ کو [مختصراً بتائیں کہ اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا (ضروری دستاویزات) اور خاص طور پر بیرون ملک صارفین پر توجہ دیں]			غیر دعویٰ شدہ ڈپازٹ : بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31 کے مطابق کسی نابالغ یا حکومت یا عدالت کے نام پر کھولے جانے والے ڈپازٹس کے علاوہ تمام ڈپازٹس جو پچھلے دس سالوں کے دوران فعال نہیں ہوئے ہیں، متعلقہ بینکوں کی جانب سے قانونی دفعات کے مطابق شرائط کو پورا کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے حوالے کر دیے جائے ہیں۔ ان تحویل شدہ ڈپازٹس کا دعویٰ متعلقہ بینکوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم اپنی قریبی برانچ یا ABL ہیسلپ لائن/کال سینٹر سے 225-225-111 پر رابطہ کریں۔					
رہنمائی حاصل کرنے یا شکایت درج کروانے کے لیے درج ذیل ہر رابطہ کریں :			اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہیں تو درج ذیل سے رابطہ کریں:					
رابطہ کی معلومات			بینکنگ محتسب پاکستان					
الائیڈ بینک لمیٹڈ			پانچواں فلور، شاہین کمپلیکس، ایم آر کیانی روڈ، کراچی۔					
کمپلینٹ مینجمنٹ ڈویژن			فون نمبر: (21 92+) 38-99217334 (5 لائنیں)					
الائیڈ بینک، ہیڈ آفس، سیکنڈ فلور، 3-4 ٹیپو بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور			فیکس: (21 92+) 99217375					
ٹیلی فون: 35880043-042			ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk					
ہیسلپ لائن: 225-225-111								

		ای میل: complaint.management@abl.com ویب سائٹ: www.abl.com سنوائی لنک https://sunwai.sbp.org.pk/index.html	
(پراڈکٹ/سروسز کی خریداری کا انتخاب کرنے کے بعد کے مرحلہ میں استعمال کے لیے) _____			
میں یہ تسلیم کرتا /کرتی ہوں کہ میں نے ضروری معلومات کا یہ گوشوارہ وصول کر لیا ہے اور اسے سمجھ لیا ہے			
صارف کا نام:		تاریخ:	
منتخب کردہ پراڈکٹ:			
اکاؤنٹ کا اختیار:		واحد/مشترکہ/کوئی ایک یا حیات	
پتہ			
رابطہ نمبر:		موبائل نمبر	
ای میل ایڈریس			
دستخط کی تصدیق			
صارف کے دستخط			